

## سوشل میڈیا کے ذریعے سرمایہ کاری کے حوالے سے جعل سازی / دھوکا دہی

پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (پی ایس ایکس) کی جانب سے یہ 'انویسٹر الرٹ' جاری کیا جا رہا ہے تاکہ ایسے عناصر سے اپنے سرمایہ کاروں کو خبردار کیا جا سکے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کر کے اپنے ذاتی فائدے کے لیے سرمایہ کاروں کو دھوکا دے سکتے ہیں۔

سرمایہ کاری کے حوالے سے جو فیصلے صارفین کی جانب سے کیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا اس پر اثر انداز ہونے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ بہت سے ریٹیل سرمایہ کار سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں جن میں فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، لنکڈ ان یا دیگر میڈیا پلیٹ فارمز شامل ہیں تاکہ مخصوص اسٹاک میں سرمایہ کاری کرنے، بروکرز یا انوسٹمنٹ ایڈوائزر کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے، سرمایہ کاری کی حکمت عملیوں کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے اور اسٹاک مارکیٹ کی سمت میں تبدیلیوں کی پیش گوئی یا سیکیورٹی کی قیمت کے حوالے سے معلومات اکٹھی کی جاسکیں۔

اگرچہ سوشل میڈیا ریٹیل سرمایہ کاروں کو بہت سے فوائد فراہم کرتا ہے، تاہم یہ غیر مجاز مشیروں/ڈیلرز کی موجودگی کے سبب بھی خطرات کا باعث بن سکتا ہے، جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے ان پلیٹ فارمز کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ غیر مجاز مشیر/ڈیلرز کسی خاص ریگولیٹڈ/لائسنس یافتہ کمپنی کی نقالی کرتے ہوئے یا اپنی خود ساختہ حیثیت میں خود کو اسٹاک مارکیٹ کے ماہرین/تجزیہ کار کے طور پر پیش کرتے ہوئے اکاؤنٹ، واٹس ایپ گروپس، فیس بک پروفائل، لوگوں، ملتے جلتے نظر آنے والے ڈومینز اور ای میل آئی ڈیز وغیرہ سمیت کئی چینلز کے ذریعے اسٹاک کے بارے میں غلط یا گمراہ کن معلومات پھیلا سکتے ہیں۔

برائے مہربانی اس بات سے آگاہ رہیں کہ سوشل میڈیا سے حاصل ہونے والی معلومات غلط، نامکمل یا گمراہ کن ہوسکتی ہیں۔ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ سرمایہ کاری سے متعلق موضوعات پر مشورہ دینے کے لیے، سیکیورٹیز ایکٹ، 2015 کے مطابق سیکیورٹیز ایڈوائزر کے لیے ایک درست لائسنس درکار ہوتا ہے۔

لہذا، سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند لوگوں سے صراحت کے ساتھ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ خود ساختہ سوشل میڈیا ماہرین/تجزیہ کاروں سے ہوشیار رہیں اور رجسٹرڈ اور لائسنس یافتہ مشیروں کی خدمات حاصل کرنے کو یقینی بنائیں۔

سرمایہ کاری کے خواہشمند لوگوں کو سرمایہ کاری کا فیصلے کرنے کے حوالے سے جھانسنہ دینے کے دوسرے طریقوں کے ساتھ کچھ طریقے یہ ہو سکتے ہیں:

## -گارنٹی شدہ فکسڈ ریٹرنز کا وعدہ:

اگر کوئی شخص سرمایہ کاری پر وقتاً فوقتاً گارنٹی شدہ فکسڈ ریٹرن دینے کا وعدہ کر رہا ہے تو محتاط رہیں۔

## -بھاری انویسٹمنٹ ریٹرنز کا وعدہ:

اگر کوئی کم رسک کے ساتھ سرمایہ کاری پر بھاری شرح منافع کا وعدہ کرتا ہے تو محتاط رہیں۔

## - غیر مطلوب سرمایہ کاری کے مشورے کی فراہمی:

سرمایہ کاری کے حوالے سے غیر مطلوب مشورے پیش کرنے والے کال، میسج، ای میل یا دیگر مواصلاتی پیغامات وصول کرتے وقت محتاط رہیں، خواہ وہ کسی نامعلوم شخص کی جانب سے ہو یا کسی جاننے والے سے منسلک شخص کی جانب سے پیش کیے جائیں۔

## -فوری طور پر عمل کرنے کا دباؤ:

اگر کوئی بار بار رابطہ کر رہا ہے اور مجبور کر رہا ہے کہ فوری طور پر سرمایہ کاری کی جائے ورنہ موقع ضائع ہو جائے گا تو محتاط رہیں۔

## -غیر مجاز مشیر/ ڈیلر:

بروکرز یا ایڈوائزر کے غیر مجاز/ غیر رجسٹرڈ ملازمین سے محتاط رہیں۔ ایسے غیر مجاز/ غیر رجسٹرڈ افراد جعلی ویب سائٹس / فیس بک پیجز بناتے ہیں تاکہ ان کی جانب سے فراہم کردہ ٹپس/ مشورے کی بنیاد پر سیکیورٹیز کی خرید و فروخت کے بارے میں سرمایہ کاروں کو گمراہ کیا جا سکے۔

## -سرمایہ کاری سے قبل تحقیق:

کسی کمپنی کے اسٹاک میں سرمایہ کاری کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے کمپنیوں اور ان کے مالیات (financials) کا جائزہ لے کر تحقیق کریں۔

سرمایہ کاروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ باقاعدگی سے ایس ای سی پی، پی ایس ایکس، سی ڈی سی اور این سی سی پی ایل کی آفیشل ویب سائٹس کا وزٹ کریں تاکہ خود کو اپ ڈیٹ رکھ سکیں اور اچھی طرح سے باخبر رہتے ہوئے سمجھدار سرمایہ کاری کے فیصلے کریں۔

مزید برآں، پی ایس ایکس سرمایہ کاری کرنے والے ایسے حضرات کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتا ہے، جو کسی بھی دھوکا دہی، جعلی ویب سائٹس/صفحات کے بارے میں آگاہی رکھتے ہوں اور اس کی تفصیلات ای میل اور ویب سائٹ، رجسٹریشن نمبرز، یا کوئی اور متعلقہ شواہد کے ساتھ پی ایس ایکس کو رپورٹ کرنے کے خواہشمند ہوں۔ دھوکا دہی کی اطلاع دینے سے پی ایس ایکس کو اس بات میں مدد ملے گی کہ وہ دوسرے سرمایہ کاروں کو نادانستہ شکار بننے سے روک سکے۔

پی ایس ایکس کو درج ذیل پتوں پر دھوکا دہی/جعل سازی کی اطلاع دی جا سکتی ہے:

ڈاک کا پتہ: پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (پی ایس ایکس) ہیڈ آفس، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی - 74000، پاکستان۔

ای میل ایڈریس: [investor.complaints@psx.com.pk](mailto:investor.complaints@psx.com.pk)

پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے ریگولیٹری افیئرز ڈویژن کی جانب سے